



السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں اپنی پڑھائی میں بہت کند ذہن ہوں مجھے پڑھائی میں سمجھنے بھی کم آتی ہے جس کی وجہ سے میں امتحانات میں دھوکا (نقل وغیرہ) سے کام لیتا ہوں امید ہے اس سلسلہ میں میری راہنمائی فرمائیں گے؟

اجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ خوب خوب محنت سے کام لیں بار بار پڑھیں اپنے اسباق کو یاد کرنے سمجھنے اور اتنا دوسے استفادہ کی بھر پور کوشش کریں اپنے ہم درس ساتھیوں سے بھی مدد لیں اور بار بار سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں اس سے فائدہ حاصل ہوگا اور معافی مطالب کی سمجھ بھی آئے گی نقل وغیرہ کا سلسلہ بالکل ترک کر دیں کیونکہ یہ حرام بھی ہے اور امت کے خاص و عام افراد کے لئے اس میں دھوکا بھی ہے۔

ہدایا عندی والنداء علم بالصواب

[فتاویٰ اسلامیہ](#)

ج 1 ص 38